



(۱)

## بشري

مؤمنين ني جماعه! اپني قدر پهنچانو، اپن وه لوگو ما سي چهے که جرنے فاطمة نا داعي ليله القدر ما عبادة واسطے غفلة سي جگاوے چهے، ايم ذکر اوے چهے که فاطمة عليها السلام پوتانا اهل ما سي کوئي ايک نے بهي ييرات ما سوا نوتا ديتا، انے فرماؤتا مَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، اَجے فاطمي داعي سيدنا محمد برهان الدين اپنے ا مثل جگاوي نے بشري سناوے چهے که اپن فاطمة انے فاطمة نا داعي نا گھرنا لوگو ما سي چهے، عجب اپني قدر چهے، اپنے کيو ما مولی ملا چهے جرنے نوازشات بيشمار چهے .

(۲)

## مائدة ني برکة

مؤمنين ني جماعه! فاطمة پر ا شان سي مائدة نازل تھيا، ايجمئل دعاة نا مانر صاحبة نا گھر ما مائدة اوترے چهے، کون اوتارے چهے؟ که امام اوتارے چهے، مائدة کون؟ که جرنے دعاة نا سبب عيد ني برکات مؤمنين نے ملتي رهے چهے، قسم قسم نا الوان يير مائدة ما چهے، ا دعائونا وارث باوا جي صاحب سيدنا محمد برهان الدين چهے جرنے امام پوتانا مائدة پر بيتھاوے، بھلا امام استاذ جو ذرنے يير شرف اے تو پوتانا داعي نے کيم نر اے، ا داعي مؤمن نے سونر شرف اے چهے که امام نا باوا جي صاحب سيد الشهداء امام حسين ني ذکر کرے چهے که جرنے دشمنو يير تين دن بھوکا انے پياسا راکھا، انے عاشوراء نا دن سجدة ما قتل کيدا، يير مولی ني شهادة پڑھي نے يير قدساني مائدة ني مؤمنين نے اضعافا مضاعفة پهنچاوي رهيا چهے .



(۳)

## اطعموا الطعام

سیدنا محمد برهان الدین ایک بیان ما سیدنا طاہر سیف الدین نا بیان ما سی  
اقتباس کرینے فرماوے چھے:

"رسول الله فرماوے چھے اطعموا الطعام، جن نے جمارو، تارے وہ  
شخص نادان کھوائی، یا اهنے جر کھوتر کھوائی، کہ رسول الله توکھے  
چھے کہ جماروانے وہ کھے چھے کہ جن نر جمارو، یر تو بگا رچھے . . . بیجا  
گھنا کام چھے تر کرو، ترنے اتنوج جواب چھے کہ تھوڑا دن ایک مہینہ یا ۴۰  
دن بھوکا رھی جاوانے پچھی ہمنے نصیحة کرو کہ لوگو نے جن نر جمارو"

(۴)

## جن نی حرمة

دیکھو جن نی گھنی حرمة چھے، باواجی صاحب مولی - مولانا محمد برهان الدین  
اپ نماز نا پچھی مسجد ما پد ہارے . . . سبق ہوئے یا بیتھک ہوئی انے بیتھک پچھی . . .  
جن تناول کروا ہال ما ہمیں غلامو سگلا بیتھا ہوئے، شرف ہمنے گھنو، تو بیتھک ما جر  
مؤمنین ایا ہوئے کتناک لوگو نے شوق کہ مولانا نو برکتی جن ہمنے اپے، تو ہمیں کھیئے کہ  
. . . اوپر تمیں او جو . . . تھال اوے تر وقت . . . تھال اوے پچھی پلینے لئی نے جئیے ہمیں  
. . . مولانا خود مروتی انے چاول ہلاوینے اپے ہاتھ سی پلینے ما موکے وہانر، بعض وقت  
ہمیں تیاری کری عرض کریئے پچھی ہاتھ لگاوے، ہوے ہمیں اپوانے جئیے مؤمن بھائی نے  
تو فرماوے کہ جو برابر دش (DISH) ما موکی نے اچو، ام نے ام نر اپی دجو، ایم گھنی وارا یم  
تھائی، پاچھو بیجو کوئی موقع اوے تو فرماوے جو دش (DISH) ما موکی نے اچو برابر.